

نیو یارک شہر
انتظامیہ اور بجٹ کا دفتر
کمیونٹی ڈیولپمنٹ بلاک گرانٹ پروگرام - ڈیزاسٹر ریکوری
دستیابی کا عوامی نوٹس
عوامی سماعت کا نوٹس

دلچسپی رکھنے والے تمام رہائشیوں، گروپس، کمیونٹی بورڈز، اور ایجنسیوں کے لیے:
26 اگست 2022، بروز جمعہ، نیو یارک شہر آئیڈا طوفان سے بحالی میں مدد کرنے کے لیے فیڈرل ڈیزاسٹر ایڈ میں \$187,973,000 کے لیے اپنا منصوبہ پیش کرے گا۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ بلاک گرانٹ - ڈیزاسٹر ریکوری (CDBG-DR) ایکشن پلان وضاحت کرتا ہے کہ شہر امریکی محکمہ برائے تعمیرات اور شہری ترقی (HUD) کے ذریعے فراہم کیے گئے فنڈز کو کیسے خرچ کرے گا۔

آئیڈا ایکشن پلان تعمیرات، معاشی بحالی، انفراسٹرکچر، تخفیف، اور منصوبہ بندی سے متعلق ضروریات اور تقسیم وسائل کی وضاحت کرتا ہے جو کہ شہر کو مستقبل کے طوفانوں اور دیگر ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ رکھنے میں مدد دیں گے۔ HUD کے تقاضوں کے مطابق، CDBG-DR فنڈز کے کم از کم 70 فی صد حصے کا فائدہ کم اور اوسط آمدنی کے حامل افراد، اور فنڈز کے کم از کم 80 فی صد حصے کا فائدہ بروئکس، بروکلین، کوئینز، اور سٹیٹن جزیرے تک پہنچنا چاہیے۔

26 اگست 2022 سے شروع ہونے والے منصوبے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، براہ کرم یہ ملاحظہ کریں:
<https://www1.nyc.gov/site/cdbgdr/index.page>۔ انتظامی خلاصہ جات انگریزی، ہسپانوی، چینی، روسی، بنگالی، ہیٹین، کوریائی، عربی، اردو، فرانسیسی، اور پولش زبان میں دستیاب ہوں گے۔ آن لائن مواد بینائی کے مسائل کے شکار افراد کے لیے بھی قابل رسائی ہوں گے۔ ایکشن پلان کی کاغذی کاپیاں، بڑے پرنٹ کے فارمیٹ (18pt. فونٹ سائز) سمیت، درخواست کیے جانے پر فراہم کی جائیں گی۔

آئیڈا ایکشن پلان پر تبصروں کی مدت کا آغاز 27 اگست 2022 کو ہو گا۔ تبصرے بروز پیر، 26 ستمبر 2022، رات 11:59 (EST) بجے سے پہلے موصول ہونے چاہئیں۔ تحریری تبصرے CDBGComments@omb.nyc.gov یا انتظامیہ اور بجٹ کے میئر کے دفتر پر جمع کروائے جا سکتے ہیں، توجہ برائے: جولی فری مین (Julie Freeman)، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی ڈائریکٹر،
255 Greenwich Street, 8th Floor, New York, New York 10007

اس کے علاوہ، مزید عوامی تبصروں کی درخواست کرنے کے لیے شہر نے بروز بدھ، 14 ستمبر 2022، شام 7:00 بجے ورچوئل عوامی سماعت شیڈول کی ہے۔ براہ کرم عوامی سماعت میں شامل ہونے کی خاطر لنک کے لیے اس نوٹس کا اختتامی حصہ دیکھیں۔ اگر آپ شرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کو ترجمے کی خدمات درکار ہیں، تو براہ کرم 9 ستمبر، 2022 کو رات 11:59 بجے (EST) سے پہلے CDBGComments@omb.nyc.gov پر درخواست جمع کروائیں۔

تبصرے کی مدت کے اختتام پر، تمام تبصروں کا جائزہ لیا جائے گا، اور شہر کی جانب سے جوابات کو ایکشن پلان میں شامل کیا جائے گا۔ تبصروں اور شہر کی جانب سے جوابات کے خلاصے پر مشتمل، حتمی آئیڈا ایکشن پلان HUD کو جمع کروایا جائے گا اور شہر کی CDBG-DR کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جائے گا۔

نیو یارک شہر: ایرک ایڈمز (Eric Adams)، میئر
یاک جیحا (Jacques Jiha)، Ph.D، ڈائریکٹر، انتظامیہ اور بجٹ کے دفتر کا میئر

تاریخ: 19، اگست 2022

عنوان: CDBG ڈیزاسٹر ریکوری (CDBG-DR)، آئیڈا طوفان
وقت: 14 ستمبر 2022 شام 07:00 بجے مشرقی علاقوں کا وقت (امریکہ اور کینیڈا)

Zoom میٹنگ میں شامل ہوں
<https://us06web.zoom.us/j/83037934893>

میٹنگ ID: 4893 3793 830
ایک مرتبہ ٹیپ کا حامل موبائل نمبر
US +16469313860,83037934893#
US +16465588656,83037934893# (نیو یارک)

اپنے مقام کے لحاظ سے ڈائل کریں

US +1 646 931 3860

(نیو یارک) US +1 646 558 8656

(واشنگٹن ڈی سی) US +1 301 715 8592

US +1 309 205 3325

(شکاگو) US +1 312 626 6799

US +1 564 217 2000

US +1 669 444 9171

US +1 719 359 4580

(ڈینور) US +1 720 707 2699

(ٹاکوما) US +1 253 215 8782

(ہیوسٹن) US +1 346 248 7799

US +1 386 347 5053

میٹنگ ID: 830 3793 4893

اپنا مقامی نمبر تلاش کریں: <https://us06web.zoom.us/j/83037934893>